

## نیویارک شہر ابتدائی تعلیمی مرکز (NYCEEC) کل دن پری کنڈرگارٹن پروگرام رجسٹریشن فارم برائے 2019-2020 اسکولی سال

ہدایات: براہ مہربانی صرف نیلی یا کالی سیابی سے واضح جلی حروف میں لکھیں۔ براہ مہربانی نوٹ کریں کہ صرف وہ والدین / سرپرست جو نیویارک شہر کے ربانشی ہیں ایک رجسٹریشن فارم جمع کرواسکتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن فارم مکمل اور دستخط کرکے براہ راست بر NYCEEC کو واپس کریں جن میں آپ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے اس رجسٹریشن فارم کی ایک نقل بانا یقینی بنائیں۔ NYCEECs کی ایک فہرست کے لیے، براہ مہربانی پری کنڈرگارٹن ڈائیریکٹری کا جائزہ لیں جو اپکے مقامی اسکول، NYCEEC یا آن لائن [nyc.gov/prek](http://nyc.gov/prek) پر دستیاب ہے۔

اس NYCEEC کا نام جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں:

جز A: طالب علم کی معلومات - برائے مہربانی سیابی سے واضح جلی حروف میں لکھیں۔	
طالب علم کا آخری نام	طالب علم کا پہلا نام
جنس (اختیاری)	تاریخ پیدائش (سال / مہینہ)
<input type="checkbox"/> لڑکا <input type="checkbox"/> لڑکی	/ 2015 /
طالب علم کا موجودہ پتہ (گھر #، اسٹریٹ، اپارٹمنٹ، # شہر ریاست اور زپ کوڈ)	
طالب علم کے گھر کا صلح (اختیاری)	

حصہ B: اختیاری معلومات - برائے مہربانی سیابی سے واضح جلی حروف میں لکھیں۔	
صحتی بیمہ:	
کیا طالب علم کے پاس صحت کا بیمہ ہے؟	
جی باں <input type="checkbox"/>	اگر باں تو کس قسم کا بیمہ ہے؟
<input type="checkbox"/> میٹیکڈ <input type="checkbox"/> چانڈ بیلنہ پلس B	<input type="checkbox"/> نجی صحتی بیمہ
<input type="checkbox"/> جی باں <input type="checkbox"/> جی نہیں	<input type="checkbox"/> اگر نہیں، تو کیا آپ بیمے کے لیے رابطہ کیا جانا پسند کریں گے؟
گھریلو زبان:	
آپ پری کنڈرگارٹن داخلہ کارروائی کے بارے میں تحریری اور / یا زبانی ابلاغ کس زبان (زبانوں) میں موصول کرنا پسند کریں گے؟ براہ کرم تمام قابل اطلاق پر نشان لگائیں۔	
<input type="checkbox"/> انگریزی <input type="checkbox"/> عربی <input type="checkbox"/> بنگالی <input type="checkbox"/> چینی <input type="checkbox"/> فرانسیسی <input type="checkbox"/> بیشین کریول <input type="checkbox"/> کوریانی <input type="checkbox"/> روسي <input type="checkbox"/> بسپانوی <input type="checkbox"/> اردو <input type="checkbox"/> دیگر، براہ کرم وضاحت کریں:	

جز C: اختیاری معلومات - برائے مہربانی سیابی سے واضح جلی حروف میں لکھیں۔	
میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی حاضری اور پابندی وقت مطلوب ہے۔ میرے لیے روزانہ اپنے بچے کو اسکول لاتے اور لے جاتے کے لیے ایک نہ مدار بالغ فرد کا انتظام کرنا لازمی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی نقل و حمل خدمات فرائم نہیں کی جائے گی۔	
والدین / سرپرست کا آخری نام	والدین / سرپرست کا پہلا نام
والدین / سرپرست کا ای میل پتہ:	شام کا ٹیلیفون نمبر
تاریخ	دن کا ٹیلیفون نمبر
والدین / سرپرست کے دستخط	

نيو يارك شہر محاکمہ تعلیم  
والدین / سرپرست طالب علم کے لیے وفاقي نسلی اور قوميٰ شناخت

والدین / سرپرست کی جانب:

وفاقی قانون نیو یارک شہر محاکمہ تعلیم سے پہلک اسکول کے طلباء کی قومی اور نسلی شناخت کے ریکارڈز کو اکٹھا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ معلومات کو دیگر جو باتیں میں سے ایک جیسے کہ آپ کے بچے کے اسکول کے لیے سرمائی کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس محفوظ اور راز رکھا جائے گا۔

اس کام کی تکمیل کرنے کے لیے بمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ براہ کرم اس صفحے کی پشت پر دیئے گئے نسل اور قومیت شناخت کے سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال آپ کے لیے اس بات کی نشاندہی کرنے کا موقع فرابم کرتا ہے کہ آیا آپ کا بچہ بسپانوی، لاطینی یا بسپانوی علاقے سے ہے یا نہیں؛ دوسرا سوال آپ کے بچے کی نسل کی نشان دہی کرنے کا موقع فرابم کرتا ہے۔ براہ مہربانی دونوں سوالوں کے جوابات دینے کو یقینی بنائیں۔ وہ طلباء جن کی نشان دہی ایک زیادہ نسلوں میں کی جائے گی ان کا شمار ”دو یا اس سے زیادہ نسلوں“ کے زمرے میں کیا جائے گا۔ تمام نسلوں کے بسپانوی طلباء کا شمار بسپانوی زمرے میں کیا جائے گا۔

محاکمہ تعلیم اس طریق کار کی حسا نوعیت کو سمجھتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مہیا کیے گئے انتخابات آپ کے اپنے خاندان کی قومیت یا نسل کی نمائندگی کی نشاندہی بالکل صحیح یا مکمل طور پر نہ کر سکے۔ ہم آپ کی اپنے بہترین اندازے کو استعمال کر کے جوابات مہیا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی سوال کے جواب نہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو، وفاقی قانون کے ربمنماei خطوط نیو یارک شہر محاکمہ تعلیم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسکول کا عمل آپ کے نمائندے طور پر آپ کے بچے کے لیے ایک نشان دہی کرے۔

طلباء کی نسل اور قومیت کے لیے معلومات کو اس صفحے پر نیچے دیئے گئے رازداری کے ضابطے کے ذریعے تحفظ حاصل ہے۔

آپ کے تعاون کا شکریہ

والدین اور سرپرست: براہ کرم اس صفحے کی پشت پر دیئے گئے فارم کو  
مکمل کریں اور اپنے بچے کے اسکول واپس کریں۔

اسکول کا عمل: مکمل شدہ فارم کو طالب علم کے مجموعی ریکارڈ کے فولڈر  
میں بطور خفیہ معلومات کے طور پر فائل کریں۔

رازداری کی کارروائی اور ضوابط

خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری قانون (1974) اور چانسلر کا ضابط A-820 کے تحت طلباء کے ریکارڈ تک غیرمنتظر شدہ رسائی اور طالب علم کے کسی بھی ریکارڈ کا بلا منظوری جاری کرنا جس کی طالب علم کے نام یا شناختی نمبر سے شناخت بوسکے، منوع ہے۔

نسل کو اسکول میں اندرج کے لیے صرف اس وقت زیر غور لایا جا سکتا ہے جہاں عدالت کا حکم اس کا تقاضا کرتا ہے، جس صرف واحد جنسی اسکولوں میں داخلے کا عنصر ہے۔

## والدین / سرپرست طالب علم کے لیے وفاqi نسلی اور قومیتی شناخت

 FORM  
PSE

- 5 اور 21 سال کی عمر کے تمام طلباء کو ایک مفت پبلک تعلیم کا حق ہے۔
- وفاqi قانون نیو یارک شہر محاکمہ تعلیم سے پبلک اسکول کے طلباء کی قومی اور نسلی شناخت کے ریکارڈز کو اکٹھا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔
- بچوں کو نسل، رنگ، مسلمک، قومی نژاد، جنس، جنسی شناخت، زچگی، نقل وطنی / شہریت کی صورتِ حال، معذوری، یا جنسی میلان، مذبہ یا قومیت کی بنیاد پر ایک پبلک اسکول میں داخلے سے انکار نہیں کیا جاسکتا 1

انگریزی

**بنیادی معلومات**

بائی اسکول /

چھوٹے اسکول / اینیکس

--	--	--

اسکول

--	--

ضلع

--

برو

--	--	--	--	--	--

نیویارک شہر طالب علم کا شناختی نمبر

--	--	--

کلاس کوڈ

--	--	--

گریڈ کوڈ

(صرف بائی اسکول 4 اعداد)

--	--	--	--	--

تاریخ پیدائش (مہینہ / دن / سال)

طالب علم کا نام: آخری، پہلا، درمیانی اسم کا پہلا حرف

**والدین / سرپرست برائے کرم اس حصے کو مکمل کریں**

برائے مہربانی سوال (1) اور (2) دونوں کا جواب دیں۔ برائے کرم جواب دینے سے قبل ان کو پڑھ لیں۔

سوال (1) کے لیے اس خانے پر (✓) کا نشان لگائیں جو آپکے بچے کی بہترین تشريح کرتا ہے۔

1. کیا طالب علم ہسپانوی، لاطینی یا بسپانوی نژاد ہے؟ بسپانوی، لاطینی یا بسپانوی نژاد سے مراد، نسل کے قطع نظر، ایک ایسا فرد ہے جو کہ کیوبا، میکسیکو، ڈومینیکن، پورتو ریکو، وسطی یا جنوبی امریک یا بسپانوی ثقافت یا نژاد سے ہو۔

 جی ہاں، بسپانوی ہے

 جی نہیں، بسپانوی نہیں ہے

سوال (2) کے لیے ان سب گروپوں پر (✓) کا نشان لگائیں جن کا اطلاق آپ کے بچے پر ہوتا ہو۔

**2- مندرجہ ذیل پانچ نسلی گروبوں میں ایک یا اس سے زائد کا انتخاب کریں۔**

- امریکن انڈین یا الاسکا کے باشندے: کوئی بھی شخص جسکا نژاد شمالی یا جنوبی امریک (بشمل مرکزی امریک) کے نژادی افراد سے ملتا ہے اور جو اپنی ثقافتی شناخت قبیلے کے الحاق یا برادری کی پہچان برقرار رکھتا ہے۔ (B کوڈ: ATS کوڈ: B)

- ایشیائی: ایک ایسا شخص جس کا نژاد مشرق بعید، جنوب مشرقی ایشیا، یا برصغیر بندوستان کے نژادی افراد سے ملتا ہے بشمول مثلاً کمبوڈیا، چین، بھارت، جاپان، کوریا، ملاتیشیا، پاکستان، جزیرہ فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام۔ (C کوڈ: ATS کوڈ: C)

- ہوائی کے باشندے یا جزیرہ بحرالکابل کے دیگر باشندے: ایک ایسا شخص جس کا نژاد ہوائی گواں یا جزیرہ بحرالکابل کے دیگر نژادی افراد سے ملتا ہے۔ (D کوڈ: ATS کوڈ: D)

- سیاہ فام: ایک ایسا شخص جس کا نژاد افریقہ کے کسی بھی سیاہ فام نسلی گروہ میں سے ہے۔ (E کوڈ: ATS کوڈ: E)

- سفید فام: ایک ایسا شخص جس کا نژاد یورپ، شمالی افریقہ، یا مشرق وسطی کے نژادی افراد سے ملتا ہے۔ (F کوڈ: ATS کوڈ: F)

تاریخ

والدین / سرپرست / دیگر / اسکول کے مشابدین کے دستخط:

طالب علم سے رشتہ:

اسکول عمل شاہد (نام):

دیگر (وضاحت کریں):

سرپرست

والدین

 والدین / سرپرستوں کے لیے اہم پیغام اور رازداری کی کارروائی اور  
ضابطہ صفحہ کی پشت یہ ملاحظہ کریں۔

### رباش کا سوالنامہ

والدین / سرپرست / طالب علم:

اس فارم کا مقصود مکنی - وینتو ایکٹ 11435 U.S.C. 42 پر توجہ دینا ہے اور اسے بر طالب علم کے لیے مکمل کرنا لازمی ہے۔ آپ کی فرایم کردہ معلومات بصیرت راز رہیں گی۔ آپ کی فرایم کردہ معلومات کی بنیا پر آپ کے بچے کے خلاف امتیاز نہیں برداشت جائے گا۔ ازراء کرم طالب علم کی ربانش کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات مکمل کریں تاکہ پہ تعین کرنے میں مدد ملے کہ طالب علم کن خدمات کا ابل ہے۔ اسکولوں / عارضی ربانش گاہ کے رابطہ کار افراد کے لیے نوٹ: براہ کرم طلباء اور والدین کو یہ فارم مکمل کرنے میں مدد کریں۔ اس فارم کو محض اندر اجی پیکٹ میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اگر کوئی طالب علم عارضی ربانش گاہ میں رہنے والے کے طور پر ابل ہے، تو طالب علم کو ربانش کا ثبوت اور ایسے دیگر درکار دستاویزات فرایم کرنا مطلوب نہیں ہے جو کہ اندر اجی پیکٹ کا حصہ ہیں۔ ضلع والدین کی اجازت کی بغیر ربانشکی صورت حال کی معلومات کو عیان نہیں کر سکتا ہے۔

#### طالب علم کا نام

درمیانہ	پبلہ	آخری	
اسکول	صنف جنس	تاریخ پیدائش (سال / دن / مہینہ):	# OSIS

برانے مہریاتی طالب علم کے موجودہ ربانشی انتظامات درج کریں۔ براہ کرم ایک خانے پر نشان لگائیں:

صرف اسکول کے استعمال کے لیے	رباش کے چھوٹ جانے یا معاشی دشواری کی وجہ سے کسی دیگر خاندان یا دیگر فرد کے ساتھ	نشان لگائیں (✓)
D	ساتھ رہنا رباش کے چھوٹ جانے یا معاشی دشواری کی وجہ سے کسی دیگر خاندان یا دیگر فرد کے ساتھ	
S	پناہ گاہ بنگامی حالات کی یا عبوری پناہ گاہ	
H	بوٹھ / موٹھیل ایسی جگہ رہ رہا ہے جو کہ بنگامی حالات کی یا عبوری پناہ گاہ نہیں ہے اور اسکے لیے ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور اسکے لیے ادائیگی کرنی ہوتی ہے	
T	دیگر عارضی ربانشی صورتحال ٹریلر پارک، کیمپ گراونڈ، گاڑی، پارک، عوامی مقامات، غیر مستعمل عمارت، سڑک یا کوئی بھی دیگر غیر مناسب ربانش کی جگہ	
P	مستقل ربانش گاہ طالب علم جو ایک مستقل، باقاعدہ اور موزوں ربانش گاہ میں رہ رہا ہے	

اگر طالب علم ایک مستقل ربانش گاہ میں رہ رہا ہے، یہ بھی نشاندہی کریں اگر ذیل کا اطلاق ہوتا ہے:

صرف اسکول کے استعمال کے لیے	تنہا نوجوان
"۲" درج کریں اگر قابل اطلاق ہو	ایسا نوجوان جو ایک والدین یا سرپرست کی جسمانی تحول میں نہیں ہے

والدین / سرپرست کے نام (جلی حروف میں)  
ازراء کرم اس فارم کو درخواست کے مطابق اپنے بچے کے اسکول کو واپس کریں۔

نوٹ: منکروہ بالا جواب ان خدمات کا تعین کرنے میں مدد کرے گا جنہیں آپ یا آپکا بچہ مکنی - وینتو ایکٹ کے تحت حاصل کرنے کے ابل ہیں۔ جو طلباء ایکٹ کے تحت محفوظ ہیں وہ اسکول میں فی الفور اندر اسکول کے مستحق ہیں جاپے انکے پاس وہ دستاویزات موجود نہ ہوں جو عام طور پر درکار ہوتے ہیں، جیسے ربانش کا ثبوت، اسکولی ریکارڈز، مدافعتی ٹیک کاری کے ریکارڈز یا پیدائشی سرثیفیکٹ۔ طالب علم کا اندر اسکول کے بعد، نئے اسکول کو آخری مرتبہ شرکت کیے گئے اسکول سے طالب علم کے تعليمی ریکارڈز کی درخواست کرنی چاہیے، پیشہ مدافعتی ٹیک کاری کا ریکارڈ، اور عارضی ربانش گاہ میں رہنے والے طلباء کے۔ رابطہ کار (رابطہ کاران) کو طالب علم کی کسی بھی دیگر درکار دستاویزات یا مدافعتی ٹیک کے حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ مکنی - وینتو ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل کرنے والے طلباء مفت نقل و حمل اور دیگر خدمات کے بھی ابل بوسکے ہیں۔ براہ کرم چانسلر کا ضابطہ A-780 ملاحظہ کریں۔

اس فارم کے ساتھ ایک صفحے کا منسلکہ بھی شامل ہے بغونان، "مکنی و نشوٹ بے خانمان امداد ایکٹ - والدین اور نوجوانوں کے لیے عارضی ربانش گاہ میں طلباء رینما کتابچہ"

# نيويارک شہر محاکمہ تعلیم

## پری کنڈرگارٹن لسانی ضروریات کا سروے

کے عزیزی والدین یا سرپرست، *(enter student name here)*

یہ سروے آپ کی پری کنڈرگارٹن کے اندرج کے پیکٹ کا ایک ابھ حصہ ہے کیونکہ یہ آپ کے نئے اسکول کو آپ کے ابل خانہ کی لسانی ضروریات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے میں آپ کی مدد کی بہت قدر کیجائے گی۔ برائے کرم اس فارم کو اپنے اسکول کے منظم، \_\_\_\_\_ کو واپس کریں، اگر آپ کے کوئی سوالات بیس تو، \_\_\_\_\_ پر بات کریں۔

طالب علم کی آئی ڈی:

شکریہ، \_\_\_\_\_

**حصہ 1 لسانی ضروریات:** یہ معلومات یہ طے کریں کہ گھر پر کونسی زبان بولی جاتی ہے اور ابل خانہ کی جانب سے تدریس کے لیے کونسی زبان کی درخواست کی گئی ہے (اگر دستیاب ہوئی)۔

1. آپ گھر میں کونسی زبان (زبانی) بولتے ہیں؟ براہ کرم ان تمام پر (✓) نشان لگائیں جن کا اطلاق ہوتا ہے:

اردو

فرانسیسی

کوریائی

البانوی

پنجابی

پوستانی

بیشیئن کریول

روسی

دیگر، برائے کرم وضاحت کریں \_\_\_\_\_

انگریزی

2. بچہ کونسی زبان سمجھتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)

3. بچہ کونسی زبان بولتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)

4. بچہ کونسی زبان میں مطالعہ کرتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  فی الحال مطالعہ نہیں کرتا

5. بچہ کونسی زبان لکھ سکتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  فی الحال لکھ نہیں سکتا

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  فی الحال لکھ سکتا ہے

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  بچے کے گھر یا رہائش گاہ میں کونسی زبان زیادہ تر بولی جاتی ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  بچہ والدین / سرپرستوں کے ساتھ زیادہ تر کونسی زبان بولتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  بچہ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ تر کونسی زبان بولتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  بچہ دیگر رشتہ داروں یا نگہداشت فراہم کرنے والوں (جیسے کہ بی سٹ) کے ساتھ زیادہ تر کونسی زبان بولتا ہے؟

انگریزی  دیگر آبائی زبان (زبانی)  کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بدايات دینے میں آپکی آبائی زبان استعمال کی جائے (اگر دستیاب ہو):

بعض اوقات

بیشتر اوقات

بر وقت

## نیویارک شہر محاکمہ تعلیم پری کنڈرگارٹن لسانی ضروریات کا سروے

حصہ 2 تدریسی منصوبہ بندی: ان اضافی سوالات کے جوابات کو تدریسی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اپنے بچے کے متعلق مندرجہ ذیل بر سوال کا درست جواب لکھئیں۔

1.	کیا آپ کا بچہ ریاستہائے متحده میں پہلی بار ایک تدریسی پروگرام یا گروپ کے تجربے میں شرکت کر رہا ہے	<input type="checkbox"/> جی بار <input type="checkbox"/> جی نہیں
اگر نہیں:		
	a. یہ ڈے کیئر / پری اسکول / کھیل کے گروپ میں شرکت کرنے کے لیے کہاں گیا؟	
	b. اندر اس کی تاریخ کیا تھی؟	
	c. اس نے کتنا عرصہ شرکت کی تھی؟	
	d. بدايات کے لیے کونسی زبان کا استعمال کیا گیا تھا؟	
2.	کیا آپ کا بچہ کسی اور ملک میں تدریسی پروگرام یا گروپ کے تجربے میں شرکت کر چکا ہے؟	<input type="checkbox"/> جی بار <input type="checkbox"/> جی نہیں
اگر ہاں:		
	a. اس نے ڈے کیئر / پری اسکول / کھیل کے گروپ میں شرکت کہاں پر کی تھی؟	
	b. اس نے کتنا عرصہ شرکت کی تھی؟	
	c. بدايات کے لیے کونسی زبان کا استعمال کیا گیا تھا؟	
3.	کیا آپ کے بچے کی کوئی ایسی کیفیت ہے جس کے لیے اسکول میں خاص مدد یا توجہ کی ضرورت ہو گی؟	<input type="checkbox"/> جی بار <input type="checkbox"/> جی نہیں
اگر ہاں تو براہ کرم ان تمام پر نشان لگائیں جن کا اطلاق ہوتا ہے		
	<input type="checkbox"/> جذباتی طور پر معذور	
	<input type="checkbox"/> سماعتی معذور	
	<input type="checkbox"/> دم	
	<input type="checkbox"/> بصری معذور	
	<input type="checkbox"/> نشوونمائی طور پر معذور	
	<input type="checkbox"/> گویائی معذور	
	<input type="checkbox"/> دیگر(براہ کرم وضاحت کریں)	
	<input type="checkbox"/> جسمانی معذور	
اگر ہاں، آپ کے بچے نے کونسی ابتدائی مداخلت موصول کی تھی، اگر کوئی؟		
4.	کیا بچہ ابلاغ کے لیے دیگر صورت (صورتیں) استعمال کرتا ہے، جیسے کہ امریکی اشاروں کی زبان یا اضافہ پذیر ابلاغ کے آلات (جیسے کہ ابلاغی بورڈ دستی / الیکٹرانک)؟	<input type="checkbox"/> جی بار <input type="checkbox"/> جی نہیں
اگر ہاں: کونسے؟		

حصہ 3. والدین کی معلومات ان اضافی سوالات کے جوابات کو اس لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ نیو یارک شہر محاکمہ تعلیم آپ کے ساتھ آپ کی منتخب کردہ زبان میں بات چیت کر سکے۔

1.	آپ کی آبائی زبان کونسی ہے؟	
	والدین / سرپرست: _____	آبائی زبان: _____
2.	آپ اسکول سے کونسی زبان میں تحریری معلومات موصول کرنا پسند کریں گے؟	
3.	آپ اسکول کے عملے کے ساتھ کس زبان میں بات چیت کرنا پسند کریں گے؟	
_____		والدین کے دستخط
تاریخ		

نیویارک شہر محاکمہ تعلیم  
 پری کنڈرگارٹن لسانی ضروریات کا سروے

**صرف اندراجی یا اسکولی عملے کے ذریعے مکمل کیا جائے**  
**TO BE COMPLETED BY ENROLLMENT OR SCHOOL PERSONNEL ONLY**

Date:	Name of Student/ID:	
Borough	District:	School:
Gender:	Ethnicity Code: (from PSE):	Date of Birth:
Relationship of person providing information for survey (check one):		
<input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Guardian <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Other (specify): _____		
If an interview is conducted, in what language is it conducted?		
Is a translator/interpreter used?		
OTELE Alpha Code		
<input type="text"/> <input type="text"/>		
Potential English Language Learner?		
Instruction will be provided in:		
<input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> Spanish <input type="checkbox"/> Other _____ <input type="checkbox"/> Both English and the home language of _____		

**CHILD & ADOLESCENT HEALTH EXAMINATION FORM**  
 NYC DEPARTMENT OF HEALTH & MENTAL HYGIENE — DEPARTMENT OF EDUCATION

 Please  
Print Clearly

NYC ID (OSIS)

**TO BE COMPLETED BY THE PARENT OR GUARDIAN**

Child's Last Name	First Name	Middle Name	Sex <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male	Date of Birth (Month/Day/Year)
Child's Address		Hispanic/Latino? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Race (Check ALL that apply)	<input type="checkbox"/> American Indian <input type="checkbox"/> Asian <input type="checkbox"/> Black <input type="checkbox"/> White <input type="checkbox"/> Native Hawaiian/Pacific Islander <input type="checkbox"/> Other
City/Borough	State	Zip Code	School/Center/Camp Name	District _____ Number _____ Phone Numbers Home _____ Cell _____ Work _____
Health insurance <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Parent/Guardian (including Medicaid) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Foster Parent	Last Name	First Name	Email	

**TO BE COMPLETED BY THE HEALTH CARE PRACTITIONER**

Birth history (age 0-6 yrs)	Does the child/adolescent have a past or present medical history of the following?				
<input type="checkbox"/> Uncomplicated <input type="checkbox"/> Premature: _____ weeks gestation	<input type="checkbox"/> Asthma (check severity and attach MAP): If persistent, check all current medication(s):	<input type="checkbox"/> Intermittent <input type="checkbox"/> Mild Persistent	<input type="checkbox"/> Moderate Persistent <input type="checkbox"/> Severe Persistent		
<input type="checkbox"/> Complicated by _____	<input type="checkbox"/> Quick Relief Medication <input type="checkbox"/> Inhaled Corticosteroid	<input type="checkbox"/> Oral Steroid <input type="checkbox"/> Other Controller <input type="checkbox"/> None	<input type="checkbox"/> Well-controlled <input type="checkbox"/> Poorly Controlled or Not Controlled		
Allergies <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Epi pen prescribed	<input type="checkbox"/> Anaphylaxis <input type="checkbox"/> Behavioral/mental health disorder <input type="checkbox"/> Congenital or acquired heart disorder <input type="checkbox"/> Developmental/learning problem <input type="checkbox"/> Diabetes (attach MAP) <input type="checkbox"/> Orthopedic injury/disability	<input type="checkbox"/> Seizure disorder <input type="checkbox"/> Speech, hearing, or visual impairment <input type="checkbox"/> Tuberculosis (latent infection or disease) <input type="checkbox"/> Hospitalization <input type="checkbox"/> Surgery <input type="checkbox"/> Other (specify) _____	<input type="checkbox"/> Addendum attached.	Medications (attach MAP if in-school medication needed) <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Yes (list below) _____	
<input type="checkbox"/> Drugs (list) _____	<input type="checkbox"/> Foods (list) _____	<input type="checkbox"/> Other (list) _____			
Attach MAF in in-school medications needed					

PHYSICAL EXAM	Date of Exam: / /	General Appearance:				
Height _____ cm	( _____ %ile)	<input type="checkbox"/> Physical Exam WNL	<input type="checkbox"/> NI Abnl	<input type="checkbox"/> NI Abnl	<input type="checkbox"/> NI Abnl	<input type="checkbox"/> NI Abnl
Weight _____ kg	( _____ %ile)	<input type="checkbox"/> Psychosocial Development	<input type="checkbox"/> HEENT	<input type="checkbox"/> Lymph nodes	<input type="checkbox"/> Abdomen	<input type="checkbox"/> Skin
BMI _____ kg/m <sup>2</sup>	( _____ %ile)	<input type="checkbox"/> Language	<input type="checkbox"/> Dental	<input type="checkbox"/> Lungs	<input type="checkbox"/> Genitourinary	<input type="checkbox"/> Neurological
Head Circumference (age ≤ 2 yrs) _____ cm	( _____ %ile)	<input type="checkbox"/> Behavioral	<input type="checkbox"/> Neck	<input type="checkbox"/> Cardiovascular	<input type="checkbox"/> Extremities	<input type="checkbox"/> Back/spine
Describe abnormalities:						
Blood Pressure (age ≥ 3 yrs) _____ / _____						
DEVELOPMENTAL (age 0-6 yrs)						
Validated Screening Tool Used?	Date Screened	Nutrition				Hearing
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	_____ / _____ / _____	< 1 year <input type="checkbox"/> Breastfed <input type="checkbox"/> Formula <input type="checkbox"/> Both	<input type="checkbox"/> At risk (do BLL)		Date Done	Results
Dietary Restrictions <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Yes (list below)						
> 1 year <input type="checkbox"/> Well-balanced <input type="checkbox"/> Needs guidance <input type="checkbox"/> counseled <input type="checkbox"/> Referred						
OAE _____ / _____ / _____						
≥ 4 yrs: pure tone audiometry _____ / _____ / _____						
Vision						
< 3 years: Vision appears: _____ / _____ / _____						
Acuity (required for new entrants and children age 3-7 years) _____ / _____ / _____						
Right _____ / _____ Left _____ / _____ <input type="checkbox"/> Unable to test						
Scanned with Glasses? Strabismus? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
Dental						
Visible Tooth Decay _____ / _____ / _____						
Urgent need for dental referral (pain, swelling, infection) _____ / _____ / _____						
Dental Visit within the past 12 months _____ / _____ / _____						
Child Receives EI/CPSE/CSE services	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	CIR Number	Physician Confirmed History of Varicella Infection <input type="checkbox"/>			
						Report only positive immunity:
						IgG Titers
						Date

IMMUNIZATIONS – DATES									
DTP/DTaP/DT	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Tdap	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
Td	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	MMR	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
Polio	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Varicella	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
Hep B	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Mening ACWY	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
Hib	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Hep A	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
PCV	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Rotavirus	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
Influenza	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Mening B	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
HPV	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	Other	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

ASSESSMENT <input type="checkbox"/> Well Child (Z00.129) <input type="checkbox"/> Diagnoses/Problems (list)	ICD-10 Code	RECOMMENDATIONS <input type="checkbox"/> Full physical activity
<input type="checkbox"/> Restrictions (specify) _____		
Follow-up Needed <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, for _____ Appt. date: _____ / _____ / _____		
Referral(s): <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Early Intervention <input type="checkbox"/> IEP <input type="checkbox"/> Dental <input type="checkbox"/> Vision		
<input type="checkbox"/> Other _____		

Health Care Practitioner Signature			Date Form Completed _____ / _____ / _____	DOHMH PRACTITIONER ONLY	I.D. #
Health Care Practitioner Name and Degree (print)			Practitioner License No. and State		
Comments:			TYPE OF EXAM: <input type="checkbox"/> NAE Current <input type="checkbox"/> NAE Prior Year(s)		
Facility Name			National Provider Identifier (NPI)		
Address _____ City _____			State _____ Zip _____		
Telephone _____ Fax _____			Email _____		
REVIEWER: _____			FORM ID# _____		



Department of  
Education

Office of Communications and Media Relations  
52 Chambers Street, New York, NY 10007  
Tel: 212.374.5141 Fax: 212.374.5584

غیر منفعتی مقاصد کے لئے طالبعلم کی تصویر، فلم یا ویڈیو ٹیپ بنانے کے لئے رضامندی  
(مثلاً تعلیمی، پبلک سروس، یا صحت سے آگابی کے مقاصد کے لیے)

طالب علم کا نام: \_\_\_\_\_ اسکول: \_\_\_\_\_

میں \_\_\_\_\_ کی طرف سے مندرجہ بالا نامی طالب علم کے لیے بذریعہ بُذا اثریویو میں شرکت کرنے،  
حوالوں کے استعمال، اور تصاویر کھنچوانے، فلم یا وڈیو ٹیپ بنانے کی اجازت دیتا ہوں۔  
میں \_\_\_\_\_ کو، بیان کی کئی اشیا کے غیر نفعی مقاصد کے لیے بشمول اشاعت، انٹرنیٹ پر، اور  
میڈیا کی دیگر صورتوں کے لیے تدوین، استعمال اور دوبارہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں اس ذریعے سے نیو یارک شہر محکم  
تعلیم اور ان کے ایجنسیز اور ملازمین کو تمام دعوں، مانگوں، اور ذمہ داریوں سے مندرجہ بالا کے متعلق بر معاملے سے بھی آزاد کرتا  
ہوں۔

والدین / سرپرست کے دستخط (اگر طالب علم 18 سال سے کم عمر ہے): \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_  
والدین / سرپرست کا پتہ: \_\_\_\_\_

یا

طالب علم کے دستخط (اگر 18 سال سے یا زیادہ عمر ہے): \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_  
والدین / سرپرست کا پتہ: \_\_\_\_\_